

لَكُنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مَمَّا تَجْبَوْنَهُ

کامل نیکی کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محظوظ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ⑤

اور جو چیز بھی خرچ کرو، تو یقیناً اللہ اسے جانتے ہیں۔ تمام

الظَّعَامُ كَانَ حَلَّاً لِتَبَغِي إِسْرَاءِيلُ إِلَّا مَا حَرَمَ

کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں مگر جو حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے

إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرِيهُ

اپنے آپ پر حرام کر لی تھی اس سے پہلے کہ تورات اتنا ری جائے۔

قُلْ فَأَتُوا بِالْتَّوْرِيهِ فَأَتُولُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ⑥

آپ فرمادیجیے کہ پھر تورات لاو اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچ ہو۔

فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

پھر جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑦ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوهَا

تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ فرمادیجیے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ پھر تم ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت کا

مَلَةٌ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑧

اتباع کرو جو ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے۔ اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي يَبَكَّهُ

یقیناً سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے،

مُبَرَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ⑨ فِيهِ أَيْتُ بَيْتٌ

برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں،

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَلِلَّهِ

مقام ابراہیم ہے۔ اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے

عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيْلًا ⑩

انسانوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو پیت اللہ تک راستے طی کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑪

اور جو کافر ہوگا تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔

بِغَيْرِ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَمَّا تَكَفَرُوا بِيَالِيتِ اللَّهِ

آپ فرما دیجیے اے اہل کتاب! اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۚ **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ**

اور اللہ دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ آپ فرما دیجیے اے اہل کتاب!

لَمَّا تَصَدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ تَبَعَّذُنَهَا

کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لائے، تم اس میں بھی

عَوْجَانِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

تلash کرتے ہو اس حال میں کہم جانتے ہو۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم

عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا**

کرتے ہو۔ اے ایمان والو! اگر تم کہنا مان لوگے

فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ يَرْدُوْكُمْ

اہل کتاب کے ایک گروہ کا تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارِيْنَ ۚ **وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ**

دوبارہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تم پر

شَتَّلِي عَلَيْكُمْ أَيْثُرُ اللَّهُ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ

اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو

يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ۝

اللہ کی رسی مضبوط پکڑے گا، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے

وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ **وَ اعْتَصِمُوا**

اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور اللہ کی رسی کو

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقَرُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ

اسکھی ہو کر مضبوط پکڑو اور الگ الگ مت ہو۔ اور یاد کرو اللہ کی

اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ

اس نعمت کو جو تم پر ہے جب کہ تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے،

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ

پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے

قِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ قِنَهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

کنارہ پر تھے، پھر اللہ نے تمہیں وہاں سے بچالیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں

إِلَيْهِ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت یافتے ہو جاؤ۔ اور جائیئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا

جو خیر کی طرف بلاتی ہو اور امر بالمعروف کرتی ہو اور نبی

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا

عن انمنکر کرتی ہو۔ اور بیبی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح

كَالَّذِينَ تَقَرَّفُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

مت بنوجو الگ اگ فرقے ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن

الْبَيِّنَاتُ ۖ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ

محجرات آئے۔ اور ان کے لیے بھاری عذاب ہوگا۔ اس دن جس دن

تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَآمَّا الَّذِينَ

کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر البتہ وہ لوگ جن کے

أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

چہرے سیاہ ہوں گے، (ان سے کہا جائے گا) کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

پھر عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔

وَآمَّا الَّذِينَ أَبْيَضُتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

اور البتہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝ تِلْكَ أَلْيُتُ اللَّهُ تَشْلُوْهَا

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۝

تلاؤت کرتے ہیں۔ اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔

وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ

اور اللہ کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ

اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

نکالی گئی ہے، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المکر کرتے ہو

وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ أَمَّنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ

اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ

خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ

ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ مؤمن ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

لَنْ يَضْرُوْكُمْ إِلَّا أَذَى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوْلُوْكُمْ

وہ تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑا اساید اپہنچانا۔ اور اگر وہ تم سے پشت

الْأَدَبَارَتَ ثُمَّ لَا يُنَصَّرُونَ ۝ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةُ

پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر ان کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ ان پر ذلت مار دی گئی

أَيْنَ مَا شَقَقُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ

جہاں وہ پائے جائیں، مگر ایسے ذریعہ سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایسے ذریعہ سے

مِنَ النَّاسِ وَبَاءَوْ بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ

جو انسانوں کی طرف سے ہو اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اور ان پر

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۖ ذَلِكَ بِمَا تَهْمَمُ كَانُوا يَكْفُرُونَ

پستی جا دی گئی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے

بِإِيمَانِ اللَّهِ وَ يَقْتَلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حِقْقَةٍ ذَلِكَ

اللہ کی آیات کے ساتھ اور انہیں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ

بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ لَيُسُوا سَوَاءً

اس وجہ سے کہ وہ نافرمان ہیں اور حد سے آگے بڑھتے تھے۔ یہ سارے کے سارے برادر نہیں ہیں۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَسْتَلُوْنَ إِيمَانَ اللَّهِ أَنَّاءً

اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، اللہ کی آیتوں کی رات کی گھریوں میں تلاوت

الَّئِلَّ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ
 کرتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری
الْأُخْرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَا
 دن پر اور امر بالمعروف کرتے ہیں اور نبی عن المنکر کرنے
عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ ۝ وَ أُولَئِكَ
 ہیں اور نیک کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں۔ اور یہ
مِنَ الصَّلِيْحِينَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَّرُوهُ ۝
 اپنے لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو جھلائی بھی وہ کریں گے تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔
وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْمُتَقْبِلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 اور اللہ متقوں کو خوب جانتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لَنْ تُغْنِنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ
 ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے
شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيدُونَ ۝
 ذرا بھی۔ اور یہی لوگ دوزخی ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ان چیزوں کا حال جن کو وہ اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں
كَمَثَلِ رِيحٍ رِيفِهَا صَرْ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا
 اس طوفانی ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھینچی کو پہنچی ہو جنہوں نے
أَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكَهُ ۝ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
 اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ اس کو بر باد کر دے۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا
وَلِكُنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا
 لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو! اپنے علاوہ کسی کو
بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبَالًا وَدُدُوا
 رازدار مت بناو، وہ تم سے فساد کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ تو چاہتے ہیں
مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَأْتِ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۝
 وہ چیز جس سے تم مشقت میں پڑو۔ یقیناً بعض ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہ سے۔

وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمْ

اور جوان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے

الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ ۝ هَانَتُمْ أُولَاءِ

آئیوں کو کھول کھول کر بیان کیا اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سنو! تم تو وہ لوگ ہو کہ

تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ

تم ان سے محبت کرتے ہو اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تمام کتابوں پر ایمان کلیہ، وَإِذَا لَقُوْنَمْ قَالُوا أَمَّا هُنَّا وَإِذَا خَلَوُا عَصُّوْا

رکھتے ہو۔ اور جب یہم سے ملتے ہیں تو امننا (کہ ایمان لائے ہیں) کہتے ہیں۔ اور جب تمہائی میں

عَلَيْكُمُ الْأَنَوْمَلِ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُؤْمِنُوا بِعَيْظَمِكُمْ

ہوتے ہیں، تو تم پر غصہ کی وجہ سے انگلیوں کے پورے کائٹے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اپنے غصہ سے مر جاؤ۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِدَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنْ تَسْسُكُمْ

یقیناً اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں۔ اگر تمہیں بھلائی

حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ زَ وَ إِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يَقْرَحُوا

پہنچ تو انہیں بری لگتی ہے۔ اور اگر تمہیں مصیت پہنچ تو اس سے وہ خوش ہو جاتے

يَهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

ہیں۔ اور اگر صبر کرو گے اور متقی بنو گے تو ان کا کمر تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا

شَيْءًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْلَمُونَ حُمِيْطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ

سکے گا۔ یقیناً اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب آپ اپنے اہل سے

مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوْتِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ

صح کے وقت نکلے، آپ ایمان والوں کو لڑنے کی مجبووں پر منعین کر رہے تھے۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتُنَّ مِنْكُمْ

اور اللہ سننے والے، علم والے ہیں۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ

أَنْ تَفْشِلَا وَاللَّهُ وَلِيْهِمَا وَعَلَى اللَّهِ فَيُسْتَوْكِلُ

وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا کار ساز ہے۔ اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ

کرنا چاہئے۔ اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی بدر میں اس حال

أَنْتُمْ أَذْلَّهُ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾
میں کہ تم کمزور تھے۔ پھر تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَكُنْ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُبَدِّكُمْ
جب کہ آپ ایمان والوں سے فرمائے تھے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب

رَبِّكُمْ بِشَكْلِهِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١١﴾

تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ جو اتارے جائیں گے۔

بَلَى۝ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَا تُؤْكِمُ مِنْ فَوْرِهِمْ

کیوں نہیں! اگر تم صبر کرو گے اور مقنی بنو گے تو وہ تمہارے پاس فوراً آجائیں گے،

هَذَا يُبَدِّدُكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ الْفِيْ مِنَ الْمَلِكَةِ

یہ وہ ہے کہ تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے ذریعہ تمہاری امداد

مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ

کرے گا۔ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت

وَلَتَطْمِئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا

اور اس لیے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں۔ اور نصرت تو صرف زبردست، حکمت والے

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٣﴾ لیقطع طرفًا

اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تاکہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَكْتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَلَابِيْنَ ﴿١٤﴾

کاٹ کر رکھ دے یا انہیں (قیدی بناؤ کر) ذلیل کرے، کہ وہ ناکام واپس چلے جائیں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَمَا يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ

آپ کا اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے

أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُوْنَ ﴿١٥﴾ وَإِنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

یا انہیں عذاب دے، کیوں کرو ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اللہ کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں

وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

اور جو زمین میں ہیں۔ اللہ مغفرت کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں اور عذاب

مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦﴾ يَا يَشَاءُ الَّذِيْنَ

دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اور اللہ بخشتے والے، نہایت رحم والے ہیں۔ اے ایمان

أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَافًا مُضْعَفَةً^۷
واللو! کئی کئی گنا کر کے سود مت کھاؤ۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ^۸ وَاتَّقُوا النَّاسَ
اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ڈرو اس آگ سے

الَّتِي أَعْدَتْ لِلْكُفَّارِينَ^۹ وَأَطْبَعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو

لَعْلَكُمْ تُرْحَمُونَ^{۱۰} وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف

مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ^{۱۱}
دوڑو اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے،

أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ^{۱۲} الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
جو متقيوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان کے لیے جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور

وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمَينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ
تکلیف میں اور جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو

عَنِ النَّاسِ^{۱۳} وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ^{۱۴} وَالَّذِينَ
معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں

إِذَا فَعَلُوا فَاجْحَشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا
کہ جب وہ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرنے

اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفُرُ
لگ جاتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور سوائے اللہ کے

الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدُ وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا^{۱۵}
کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ اپنے کی پر اصرار نہیں کرتے

وَهُمْ يَعْلَمُونَ^{۱۶} أُولَئِكَ جَزَاً وَهُمْ مَعْفَرَةٌ^{۱۷}
اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ ان کا بدله ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے

مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ^{۱۸}
اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی

خَلِدِيْنَ فِيهَا وَ نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِيْنَ ۝ قَدْ

جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کام کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ یقیناً

خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّنٌ لَا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

تم سے پہلے طریقے گذر چکے، تو زمین میں چلو پھرو

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْبُكَذِيْنَ ۝ هَذَا

پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انعام کیا ہوا؟ یہ

بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

انسانوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت اور متقویوں کے لیے نصیحت ہے۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَغْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ

اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی بلند رہو گے اگر

مُؤْمِنِيْنَ ۝ إِنْ يَمْسِسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ

تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اسی جیسا زخم اس قوم کو

قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۝

بھی پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جنگیں ہیں جن کو ہم انسانوں کے درمیان اولتے بدلتے رہا کرتے ہیں۔

وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذُونَ مِنْكُمْ شَهَادَاتٍ

اور تاکہ اللہ جان لے ان کو جو ایمان والے ہیں اور تم میں سے شہداء بنائے۔

وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَلِيُحِصِّنَ اللَّهُ الَّذِيْنَ

اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ اور اس لیے تاکہ اللہ خالص کرے ان کو

آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكُفَّارِيْنَ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا

جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹائے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل

الْجَنَّةَ وَلَيَسَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَهَدُوا مِنْكُمْ

ہو جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ نے معلوم نہیں کیا ان کو جو تم میں سے مجاهد ہیں

وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَّوَنُ الْمَوْتَ

اور اب تک صبر کرنے والوں کو معلوم نہیں کیا۔ اور یقیناً تم موت کی تمنا کرتے تھے

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۝ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ

اس سے پہلے کہ اس سے ملو۔ تو یقیناً تم نے اس کو اپنی آنکھوں

تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
سے دیکھ لیا۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں ہیں مگر مجھے ہوئے پیغمبر۔ یقیناً آپ سے پہلے

مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ أَقَدِّينَ مَاتَ أَوْ قُتِّلَ أَنْقَبَيْتُمْ
بہت سے پیغمبر گزر چکے۔ کیا پھر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مر جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں

عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ

کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا

فَلَنْ يَصُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِيرِينَ

تو وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اور عقریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدل دیں گے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَثُرًا

اور کسی جاندار کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے لکھی ہوئی (مقرر کی ہوئی)

مُؤْجَلًا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

اور جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ مدت پر۔

وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَبَّحُوا

اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ اور عقریب ہم

الشَّكِيرِينَ وَكَانَ مِنْ تَيِّرِ قَتْلَ مَعَةً

شکردا کرنے والوں کو بدل دیں گے۔ اور بہت سے نبی تھے کہ ان کے ساتھ بہت سے

رِيَسُونَ كَثِيرًا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ

اللہ والوں نے قاتل کیا۔ پھر ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں پہنچیں اللہ کے راستے میں انہوں

فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

نے نہ ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دبے۔ اور اللہ

يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا

صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی

أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا

کہ کہنے لگے اے ہمارے رب! تو ہمارے لیے ہمارے گئا بخش دے اور اس کام میں ہماری زیادتی

فِيْ أَمْرِنَا وَثِيتُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

معاف کر دے اور ہمارے قدم بجا دے اور کافر قوم کے خلاف ہماری نصرت

الْكُفَّارُ فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا

فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا

وَ حُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْبُحْسِنِينَ

اور آخرت کا بہتر ثواب بھی دیا۔ اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

اے ایمان والو! اگر تم کافروں کا کہنا مان لوگے

يَرْدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقْلِبُوا خَسِيرِينَ

تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے مل پلاتا کمرتہ بنا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔

بَلِ اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّصَارَىٰ سَنُونِي

بلکہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے۔ اور وہ بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ عقریب ہم کافروں

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ

کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ

مَا لَهُمْ يُرِيدُنَ بِهِ سُلْطَنًا وَ مَا وُهُمُ التَّارُ وَ بِئْسَ

ایسی چیزیں جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور وہ

مَثْوَى الطَّلَبِيْنَ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَ عَدَكُمْ

ظالموں کا برا ٹھکانا ہے۔ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ بھی کر دکھایا

إِذْ تَحْسُوْهُمْ بِيَادِنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلَتُمْ

جب تم ان کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم بہت ہار بیٹھے

وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ نَّ

اور تم نے اس معاملہ میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ

مَا أَرِكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا

اللہ نے تمہیں دکھائی وہ (فتح) جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں

وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھر دیا تاکہ اللہ تمہیں

لِيَتَبَلِّيْكُمْ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ

آزمائے۔ اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ ایمان والوں پر

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ

فضل والے ہیں۔ جب تم پپاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑکر کسی کو علیٰ آخِدٰ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِكُمْ فَأَثَاكُمْ دیکھتے بھی نہیں تھے حالانکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے، پھر اللہ نے غَمًا بِغَمٍ لَكِيلًا تَخْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تمہیں غم کے بد لغم دیا تاکہ تم غم نہ کرو اس فتح پر جو تم سے فوت ہو گئی اور نہ اس شکست پر مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ جو تمہیں پیچھی۔ اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔

شُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ قَنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً تُعَاشَ يَعْشَى

پھر اللہ نے تم پر غم کے بعدطمیان والی اوگھ اتاری جو تم میں سے ایک جماعت طَلَبَقَةً مِنْكُمْ وَ طَلَبَقَةً قَدْ أَهْمَتُمْ أَنفُسَهُمْ پر طاری تھی اور ایک جماعت کو اپنی جانوں کا فکر تھا، یَطْنَبُونَ يَا اللَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ ظَنَ الْجَاهِلِيَّةِ ۝ وہ اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ کا جاہلیت کا گمان کرتے تھے۔

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ

وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ فرمادیجی کہ تمام امور اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ جس کو مَا لَا يُبَدِّوْنَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ منافقین کہتے تھے کہ اگر ہمارا اس معاملہ میں کوئی بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرمادیجی کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے لَبَرَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ تو بھی یقیناً مبارز ہن کر نکلتے وہ جن قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، (وہ نکلتے) اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف۔

وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحَصَّ مَا

اور (اللہ نے ایسا س لیے کیا) تاکہ اللہ امتحان لے اس کا جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ صاف کرے اس کو

فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَّقْيَى الْجَمِيعُونَ
یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے میدان چھوڑ کر چلے گئے اس دن جس دن دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے،
إِنَّمَا اسْتَرَّ لَهُمُ الشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

تو ان کو تو صرف شیطان نے پھسلا�ا ان بعض حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بخششے والے، حلم والے ہیں۔

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا
اے ایمان والو! تم ان کی طرح مت بنو جنہوں نے کفر کیا

وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي الْأَرْضِ
اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں

أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا
یا غازی بن کر جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے

وَمَا قَتَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
اور قتل نہ کیے جاتے۔ تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حست بنائے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُبَيِّنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
اور اللہ ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔

وَلَئِنْ قُتِلْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ
اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت

مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ
اور رحمت بہتر ہے اس دولت سے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر مر جاؤ

أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فِيهَا رَحْمَةٌ
یا تم قتل کیے جاؤ تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ کی رحمت کی

مِنَ اللَّهِ لِئَلَّتِ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا القَلْبِ
وجہ سے ہی ان کے لیے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نرم ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ سخت یا سخت دل والے ہوتے

لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلَكَ فَاغْفِرْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
 توپیقیاً صحابہ کرام آپ کے آس پاس سے منتشر ہوجاتے۔ اس لیے آپ انہیں معاف کیجیا اور ان کے لیے مغفرت
 لَهُمْ وَشَارِوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ
 طلب کیجیے اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہئے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر
 عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرُكُمْ
 توکل کیجیے۔ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری نصرت کرے
 اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَعْدُلُكُمْ فَمَنْ
 تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ تمہاری نصرت چھوڑ دے تو اللہ
 ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَ عَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلْ
 کے بعد کون ہے جو تمہاری نصرت کرے؟ اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل
 الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمَ وَمَنْ
 کرنا چاہئے۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اور جو
 يَعْلَمُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمُ الْقِيَمَةِ شَمْ ثُوَفِ
 خیانت کرے گا تو لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ چیز جس میں خیانت کی ہے۔ پھر ہر شخص کو
 كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَقَمَنَ
 اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر
 اشْيَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخْطٍ مَنْ اللَّهُ
 وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کا ایتام کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصب لے کر لوٹا
 وَمَا وَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِإِسْمِ الرَّحْمَنِ هُمْ دَرَجَتْ
 اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے؟ اور وہ بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کے پاس مختلف درجات
 عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَرَّ اللَّهُ
 میں ہوں گے۔ اور اللہ دیکھ رہے ہیں ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مَنْ أَنْفَسِهِمْ
 ایمان والوں پر جب کہ ان میں رسول بھیجا اُنہی میں سے
 يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ أَيْتَهُ وَ يُرَكِّبُهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی

وَالْحَمْدَةُ لِلّٰهِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ لَفِي ضَلٌّ مُسْتِبْدٌ ۝
تعلیم دیتے ہیں۔ اور یقیناً وہ اس سے پہلے البتہ گھلی گمراہی میں تھے۔

أَوَلَيْسَ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَّتُمْ مُشْلِيْهَا ۝
کیا تمہیں جو ایک مصیبت پہنچی تو اس کی دوگنی تم ان کافروں کو نہیں پہنچا سکے؟

قُلْمُمْ أَلِّي هَذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۝
تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی؟ آپ فرمادیجیے کہ یہ تمہاری ہی طرف سے آئی۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمٌ
یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر تھا۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جس دن

الثَّقَى الْجَمِيعُنَ فِيَادِنُ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
دونوں شکر باہم مقابل ہوئے وہ اللہ کے حکم سے (پہنچی) اور اس لیے تاکہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کریں۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۝ وَ قَيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
اور تاکہ اللہ منافقین کو معلوم کریں۔ حالانکہ ان سے کہا گیا کہ آؤ،

قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ۝ قَالُوا لَوْ تَعْلَمُ
اللہ کے راستے میں قال کرو، یا کم از کم دفاع تو کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی

قِتَالًا لَآتَيْنَكُمْ ۝ هُمْ لِكُفَّارٍ يَوْمَئِنْ أَقْرَبُ
جاننتے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ وہ اس دن ایمان کی بہ نسبت کفر کے زیادہ

مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ ۝ يَقُولُونَ يَا فَوَاهِمُهُمْ مَا لَيْسَ
قرب تھے۔ وہ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جو ان کے

فِي قُلُوبِهِمْ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ الَّذِينَ
دولوں میں نہیں تھی۔ اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ چھیا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو

قَالُوا إِلَيْخُوا نِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۝
اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اور خود بیٹھ گئے ہیں، کہ اگر یہ ہمارا کہنا مانتے تو وہ قتل سے کیے جاتے۔

قُلْ فَادْرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
آپ فرمادیجیے کہ پھر تم اپنے آپ سے موت کو دفع کرو اگر

صَدِيقِينَ ۝ وَلَا تَحْسِبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلٍ
اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں سچے ہو۔

قِرْآنِ

بِعْدِ

مَعَ

اللَّهُ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٥﴾
 مردے گمان نہ کریں۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔
فِرْجِينَ إِمَّا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِسْتَبْشِرُونَ
 وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اور وہ خوبخبری پہنچانا چاہتے ہیں
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْعَفُوا بِرِبِّهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ لَا خَوْفُ
 ان لوگوں کو جوان سے نہیں ملے ان کے پیچھے والوں میں سے اس بات کی کہ ان پر نہ خوف
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَزُونَ ﴿١٦﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ
 ہے اور نہ وہ غمیں ہیں۔ وہ خوبخبری پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کی
مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ
 نعمت کی اور اللہ کے فضل کی اور اس بات کی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
 کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا
مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرُّجُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
 اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچا، ان لوگوں کے لیے جوان میں سے نیک ہیں
مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٨﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ
 اور متینی ہیں، ان کے لیے بھاری اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے لوگوں نے
النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَلَا حَشُوْهُمْ
 کہا کہ یقیناً یہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو تم ان سے ڈرو
فَرَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٩﴾
 تو اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔
فَأَنْتَقَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَسْسَهُمْ
 پھر وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے، ان کو کسی تکلیف نے
سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾
 چھوٹا تک نہیں اور انہوں نے اللہ کی خوبشودی کا اتباع کیا۔ اور اللہ بھاری فضل والے ہیں۔
إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أُولَيَاءَكُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ
 یہ تو صرف شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تو تم ان سے مت ڈرو

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَحْرُنَكَ اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ اور آپ کو غمگین نہ کریں
 الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّمُمْ لَنْ يَضُرُوا وہ لوگ جو کفر میں تیزی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ کو ذرا بھی ضرر نہیں
 اللَّهُ شَيْءًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا پہنچا سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ
 فِي الْأُخْرَةِ وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا نہ رکھیں۔ اور ان کے لیے بھاری عذاب ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو
 الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُوا اللَّهُ شَيْءًا وَلَهُمْ ایمان کے بدلہ میں خریدا، وہ اللہ کو ذرا بھی ضرر ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ان کے لیے
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَا دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو
 نُتْلِي لَهُمْ خَيْرٍ لَا يَفْهِمُونَ ۝ إِنَّمَا نُتْلِي لَهُمْ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو صرف ان کو ڈھیل دے رہے ہیں
 لِيَزَدِدُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ مَا کَانَ اس لیے تاکہ وہ گناہ میں اور بریصیں۔ اور ان کے لیے رسوائرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ایسا نہیں ہے
 اللَّهُ لِيَدَرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اس پر جس پر تم ہو جب تک کہ اچھے
 الْخَيْثَ مِنَ الظَّلِيلِ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ سے بُرے کو الگ نہ کر دے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب
 عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ رُسِّلَهُ مَنْ پر مطلع کرے لیکن اللہ منتخب کرتے ہیں اپنے پیغمبروں میں سے جسے
 يَشَاءُ۝ فَإِنْمُوا بِإِنْلُهٖ وَرُسُلِهٖ ۝ وَإِنْ تُؤْمِنُوا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر تم ایمان لاوے گے
 وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ اور مقنی بنو گے تو تمہارے لیے بھاری اجر ہوگا۔ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں

يَبْخَلُونَ بِمَا أَنْتُمُ اللَّهُ مِنْ قَضِيلٍ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط
ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ بخشنے کے لیے بہتر ہے۔

لَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيِّطَرَوْقُونَ مَا بَخْلَوْا بِهِ يَوْمَ
بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن عنقریب طوق بنا کر پہنانے جائیں گے ان کو وہ جس کے

الْقِيمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّفَوْتِ وَالْأَرْضِ

ساتھ انہوں نے بخشنے کیا۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔

وَاللَّهُ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ

اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ م

لی جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔

سَنَتَبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَفْنِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ

عنقریب ہم لکھ رہے ہیں اس کو جو انہوں نے کہا اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کو (ہم لکھ رہے ہیں)۔

وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلیک بِمَا قَدَّمْتُ

اور ہم کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو۔ یہ عذاب ان اعمال کے بدله میں ہے جن کو تمہارے

أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ

ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یہ کہ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ إِلَيْنَا آلاً ثُوْمَنَ

وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے یہ کہ ہم ایمان نہ لائیں

لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكِلُهُ التَّارُ

کسی پیغمبر پر جب تک کہ وہ ہمارے یاں ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے۔ آپ فرمادیجیے کہ

قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِيْ

یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے پیغمبر روش میجرات لے کر آئے اور اس چیز کو بھی لے کر آئے

قُلْنَمْ فَلِمَ قَتَلْشُوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ

جو تم نے کہی۔ پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر سچے ہو۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ

پھر اگر وہ آپ کو جھٹالائیں تو یقیناً آپ سے پہلے پیغمبر جھٹلائے گئے جو

بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ كُلُّ نَفِيسٍ

ہر شخص

روشن مجازات اور لکھی ہوئی کتابیں اور روشن کتاب لے کر آئے۔

ذَلِيقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤْفَقَ أَجْوَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

موت کا مزہ پچھنے والا ہے۔ اور تمہیں تمہارے ثواب قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے۔

فَمَنْ رُحِنَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

پھر جس شخص کو آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُشْبَلُونَ

اور دنیوی زندگی نہیں ہے مگر وہ کے کامان۔ تمہیں تمہارے

فِيَ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ

مالوں میں اور تمہارے نفسوں میں ضرور آزمایا جائے گا۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جن کو تم سے پہلے

أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

کتاب دی گئی اور مشرکین کی طرف سے بہت سی ایذا پہنچانے والی چیزیں

أَدَّى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ

ضرور سنو گے۔ اور اگر صبر کرو گے اور مقنی رہو گے، تو یقیناً یہ

مِنْ عَزْرِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيَثَاقَ

تاکیدی امور سے ہے۔ اور جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتَبَيَّنَهُ اللَّاتِي

جن کو کتاب دی گئی کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے

وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبِذُ وَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا

اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدله میں

بِهِ شَمَانًا قَلِيلًا فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسِنَ

تحوڑی قیمت لے لی۔ پھر برا ہے وہ جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ آپ گمان نہ کیجئے

الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُخْبِيُونَ أَنْ يُحْمَدُوا

وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان حرتوں پر جو وہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے

بِمَا لَمْ يَعْلَمُوا فَلَا تَحْسَبَهُمْ بِمِقَارَةٍ قِنَ الْعَدَابِ

ایسے کاموں میں جو انہوں نے نہیں کیے تو آپ ان کو عذاب سے نجات میں گمان نہ کیجیے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِلَهٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^{١٠}
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١١} إِنْ فِي خَلْقٍ
اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ یقیناً آسمانوں اور

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں

لَا يَتَّبِعُ لِأَوْلَى الْأَلْبَابِ^{١٢} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں

قَيْمًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹ کر اور وہ غور و فکر کرتے ہیں

فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^{١٣} رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ اے ہمارے رب! تو نے اس کو بیکار

هَذَا بَاطِلًا^{١٤} سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ التَّارِ^{١٥} رَبَّنَا
پیدا نہیں کیا۔ تو پاک ہے، تو توہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب!

إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلَ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ^{١٦}
یقیناً جس کو تو آگ میں داخل کرے گا تو یقیناً تو نے اس کو رسو ا کر دیا۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ^{١٧} رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيَاً
اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب! یقیناً ہم نے ایک منادی کو سنا

يُنَادِي لِلِّإِنْيَانِ أَنْ أَمْنِوا بِرِبِّكُمْ فَامْتَأَّ^{١٨} رَبَّنَا
جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب!

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاتَنَا وَتَوَفَّنَا^{١٩}
پھر تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برا کیاں دور کر دے اور توہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات

مَعَ الْأَكْبَارِ^{٢٠} رَبَّنَا وَاتَّنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ
دے۔ اے ہمارے رب! اور توہمیں وہ چیز عطا فرماجس کا تونے ہم سے وعدہ کیا تیرے پیغمبروں کی زبانی

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ^{٢١} إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمُيَعَادَ^{٢٢}
اور توہمیں قیامت کے دن رسو نہ کر۔ یقیناً تو وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَفَلَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں
مَنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ
کروں گا، وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے۔ تم میں سے ایک
مَنْ بَعْضٌ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
دوسرا سے ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے
وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفَرَنَ
اور جن کو ایذا دی گئی میرے راستے میں اور جنہوں نے قاتل کیا اور وہ قتل کیے گئے تو میں ان سے ان کی
عَنْهُمْ سَيِّتاً تَهْمَمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي
براہیاں ضرور دور کر دوں گا اور میں انہیں ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
نہیں بہتی ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے ثواب کے طور پر۔ اور اللہ کے پاس
حُسْنُ التَّوَابِ ۚ لَا يَغْرِيَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ
بہترین ثواب ہے۔ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا
كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ شَمَّ مَا وُهُمْ
ملکوں میں آنا جانا۔ یہ تھوڑا نفع اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانا
جَهَنَّمُ وَبِيُّسَ الْمَهَادُ ۚ لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ
جہنم ہے۔ اور وہ برا بچھنا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيدِينَ
ان کے لیے باغات (جنیں) ہوں گے جن کے نیچے سے نہیں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ
فِيهَا نُرُّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
رہیں گے، اللہ کی طرف سے صیافت کے طور پر۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے
لِلْأَبْرَارِ ۚ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
بہتر ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے البتہ وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر
وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ بِاللَّهِ
اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی اور اس کتاب پر جو ان کی طرف اتاری گئی جو اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں،

لَا يَشْتَرِئُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ ثَمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ

وہ اللہ کی آیات کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ ان کے لیے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑩


ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاءِبُطْوَاتٍ

اے ایمان والو! صبر کرو اور ایک دوسرے کو مضبوط کرو اور پہلے سے تیاری رکھو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاخ پاؤ۔



الیائیہ ۱۷۶

(۲) سُورَةُ السَّجَدَةِ مَدِیدَۃٌ (۹۲)

رَوْعَانَہا ۲۳

اوہ رکوع ۲۳

اس میں ۲۶ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو براہمہ بان، نہایت رحم والا ہے۔

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

اے انسانو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا

مِنْ تَفْسِيرٍ وَلِحَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا

ایک جان سے اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ

بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کو پھیلایا۔ اور ڈروں اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے

بِهِ وَالْأَرْحَامِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری توڑنے سے ڈرو۔ یقیناً اللہ تم پر گمراہ ہے۔

وَاتُوا الْيَتَمَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْغَيْثَ

اور تیبیوں کو ان کا مال دو اور حلال کے بدلہ میں حرام کو (یا کیزہ کے بدلہ میں گندے کو)

بِالظَّلِيبِ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ۝

مت لو۔ اور ان کے ماں کو اپنے ماں کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ۔

إِنَّكُمْ كَانَ حُوَّبًا كَيْبِرًا ۝ وَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا

یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ڈرو اس سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے

فِي الْيَتَمَّ فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْتَقِي
تیمیوں کے بارے میں تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، دو دو سے
وَثُلَّٰثَ وَرُبْعَٰ فَإِنْ خَفْتُمُ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
اور تین تین سے اور چار چار سے۔ پھر اگر ڈرواس سے کتم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو
اوْ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُمْ ذَلِكَ أَدْنَى إِلَّا تَعْوَلُوا ⑤
یا اپنی باندیوں سے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ بالکل ایک کی طرف تم مالک نہ ہو جاؤ۔
وَاتُّوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ يَخْلَةً فَإِنْ طَمِنَ لَكُمْ
اور عورتوں کو ان کے مہر (خوشی سے) دو۔ پھر اگر وہ تمہیں خوش دلی سے اس میں سے
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِئَا مَرِيًّا ⑥ وَلَا تُؤْتُوا
کوئی چیز دیں تو تم اس کو کھا دے، خونگوار اور آسانی سے حلک سے اترنے والا ہونے کی حالت میں۔ اور
السَّقَمَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا
بیوقوفوں کو اپنا وہ مال مت دو جن پر اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
اور اس میں سے ان کو کھانا دو اور ان کو کپڑا دو اور ان سے اچھی
مَعْرُوفًا ⑦ وَابْتَلُوا الْيَتَمَّ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
بات کہو۔ اور تیمیوں کا امتحان لو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔
فَإِنْ أَسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
پھر اگر تم ان کی طرف سے عقلمندی کو محسوس کرو تو ان کو ان کے مال دے دو۔
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ
اور ان کو اسراف کرتے ہوئے مت کھا جاؤ اور جلدی کرتے ہوئے کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو
غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ ۝ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَأْكُلْ
مالدار ہو اسے چاہئے کہ عفیف رہے۔ اور جو نقیر ہو تو وہ کھا سکتا ہے
بِالْمَعْرُوفِ ۝ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
عرف کے مطابق۔ پھر جب ان کو ان کے مال دو
فَآشِهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑧ لِلِّرِجَالِ
تو تم ان پر گواہ بنا لو۔ اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْيَسَاءَ
حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ اور عورتوں کے لیے

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا، قلیل مال میں سے

مِنْهُ أُو كَثُرٌ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ
یا کشیر مال میں سے۔ مقرر کیے ہوئے حصہ کے طور پر۔ اور جب تقسیم

الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسْكِينُونَ
کے وقت رشتہ دار اور تیمیم اور مسکین حاضر ہوں

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤

تو اس میں سے ان کو کھانا دو اور ان سے اچھی بات کہو۔

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْرِيَّةً ضَعِيفًا

اور ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقْفَوْا اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑥

تو ان پر وہ ڈرتے۔ تو انہیں چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا

یقیناً وہ لوگ جو تیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم سے وہ صرف

يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازِلًا وَ سَيَصْلُوْنَ سَعِيدًا ⑦

اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور عنقریب وہ آگ میں داخل ہوں گے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصہ کے

الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

برابر ہے۔ پھر اگر وہ عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے اس مال کا

ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ⑧

دو تہائی حصہ ہے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ اور اگر وہ عورت ایک ہو تو اس کو ادا حصہ ملے گا۔

وَلِإِبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِيمَتُهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَةً
اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین

أَبُوهُ فَلَاقِهِ الشَّرْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلَامِه
اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو تھائی ملے گا۔ پھر اگر اس مرنے والے کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کو
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ
چھٹا حصہ ملے گا وصیت کے بعد جس کی وصیت مرنے والا کرے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔

أَبَاوْلُكُمْ وَآبَنَاوْلُكُمْ لَا تَدْرُونَ آئِيهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے ان میں تم سے زیادہ قریب
نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا
کون ہے۔ یہ مقرر کیے ہوئے حصہ کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے۔ یقیناً اللہ علم والے،

حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ
حکمت والے ہیں۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا اگر
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىَنَ بِهَا
چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو بیویاں چھوڑیں وصیت کے بعد جس کی وہ وصیت کریں
أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ
اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس مال میں سے جو تم شوہر چھوڑواگر
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّرْتُ

تمہاری اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں آٹھواں حصہ ملے گا
هَمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ
اس مال میں سے جو تم شوہروں نے چھوڑا وصیت کے بعد جس کی تم وصیت کرو اور قرض ادا کرنے کے بعد۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ
اور اگر کوئی مرد ایسا ہو کہ جس کا وارث بنا جا رہا ہو کالہ ہونے کی حالت میں یا کوئی عورت ہو اس حال میں کہ

أَوْ أَخْتُ فَلِكُلٌ وَاحِدٌ قَمْهَمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
او اختر فلکل واحید قمهما السادس فـ إن كانوا
اس کا کوئی بھائی ہو یا کوئی بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر وہ

أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ
اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تھائی میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٌ لَا غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ
جس کی وصیت کی جائے اور قرض ادا کرنے کے بعد، اس حال میں کسی کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ اور اللہ علم والے، حلم والے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلُهُ جَنَّتَ بَغْرِيٍ
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے

مِنْ تَحْتِهَا الْمَهْرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۝ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

نہیں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بھاری کامیابی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودًا يُدْخَلُهُ
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو اللہ اسے آگ میں

نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۝ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَاللَّهُ

داخل کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے لیے روسا کرنے والا عذاب ہو گا۔ اور جو

يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ تِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا ۝

عورتیں تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی (یعنی زنا) کا ارتکاب کریں تو تم ان کے عَيْمَهِنَ أَرْبَعَةٌ ۝ مُنْكَمُ ۝ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ

خلاف تم میں سے چار کو گواہ بنالو۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو روک لو گھروں میں

فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَقُولُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ

یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے

لَهُنَّ سَيِّلًا ۝ وَالَّذِنِ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذْهَمُهُمَا ۝

کوئی دوسراستہ پیدا کر دے۔ اور تم میں سے جو مرد اس بے حیائی کو کریں (لواطت) تو ان دونوں کو ایذا دو۔

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا ۝ إِنَّ اللَّهَ

پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو ان سے اعراض کر لو۔ یقیناً اللہ

كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ

توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے

يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
 جو بے کام کرتے ہیں ناواقفیت سے، پھر قریب ہی میں توبہ کر
 مَنْ قَرِيبٌ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
 لیتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ اور اللہ

عَلِيهِ حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 علم والے، حکمت والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائیاں کرتے

السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
 رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ
 إِنِّي تُبَطِّعُ الْأَنْوَافَ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَثُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
 میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔
 أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا

ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے
 الَّذِينَ أَمْسَوْا لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْثِيَ النِّسَاءَ
 ایمان والو! تمہارے لیے حال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث

كَرْهًا وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِبَعْضٍ
 اور ان عورتوں کو مت روکو تاکہ تم لے لو اس مال کا کچھ حصہ
 بن جاؤ۔

مَا أَتَيْمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
 جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، مگر یہ کہ وہ محلی ہے جیائی کریں۔

وَعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُمُوْهُنَّ
 اور ان کے ساتھ زندگی گزارو بھلائی کے مطابق۔ پھر اگر انہیں ناپسند کرو

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 تو شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی

كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجَ مَكَانَ
 رکھی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسرا بیوی بدلنے کا ارادہ

رَوْجَ وَإِنِّي مُمِمِ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ
 کرو، اس حال میں کہ تم نے ان میں سے کسی ایک کوڈھیروں مال دیا ہو، تب بھی اس میں سے کچھ

شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝ وَ كَيْفَ

مت لو۔ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان ہونے کی حالت میں اور کھلا ہوا گناہ ہونے کی حالت میں؟ اور تم کیسے

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

اس کو لیتے ہو حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے

وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيَثَاقًا غَلِيلًا ۝ وَلَا تَنْكِحُوا

اور ان عورتوں نے تم سے بھاری عہد لیا ہے؟ اور نکاح مت کرو

مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۖ

ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو مگر وہ جو پہلے ہو چکا۔

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُقْتَدًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

یقیناً یہ ہے جیائی ہے اور اللہ کی نفرت کا موجب ہے۔ اور برا راستہ ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَتُكُمْ وَ أَخْوَتُكُمْ

تم پر حرام کی گئیں تمہاری ماں میں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں

وَ عَمَتُكُمْ وَ خَلْتُكُمْ وَ بَنْتُ الْأَخْ وَ بَنْتُ الْأُخْتِ

اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں

وَأَمَهْتُمُ الَّتِي أَرَضَعْتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

اور تمہاری وہ ماں میں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں

وَأُمَهْتُ نِسَلِيْكُمْ وَرَأْبِيْكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ

اور تمہاری بیویوں کی ماں میں اور تمہاری ریبیہ اولاد، جو تمہاری پرورش میں ہیں

مِنْ تِسَلِيْكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ذَفَانُ لَمْ تَكُونُوا

تمہاری بیویوں کی طرف سے، (ان بیویوں کی طرف سے) جن سے تم نے دخول کیا (صحبت کی)۔ پھر اگر تم

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَّلَ أَبْنَائِكُمْ

نے ان سے دخول سے کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور (حرام کی گئیں) تمہارے اُن بیویوں کی بیویاں

الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَاءِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

جو تمہاری پیشوں سے ہیں۔ اور حرام کیا گیا یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

مگر وہ جو پہلے ہو چکا۔ یقیناً اللہ بخشے والے، نہایت رحم والے ہیں۔